

106492- مسلمانوں کو چاند دیکھ کر رویت ہلال کمیٹی کو اطلاع دینی چاہیے

سوال

اگر انسان رمضان یا ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر رویت ہلال کمیٹی یا ذمہ داران کو نہ بتائے تو کیا ہوگا؟

پسندیدہ جواب

جو شخص تیس شعبان یا تیس رمضان یا تیس شوال یا تیس ذوالقعدہ کی رات چاند دیکھتا ہے تو اسے اپنے ملک کی رویت ہلال کمیٹی یا ذمہ دار محکمہ کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور کے دیکھنے سے چاند کی رویت ثابت ہو چکی ہو۔

تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر سکے:

{اور تم نیکی و بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو} المائدہ (2).

اور فرمان باری تعالیٰ ہے:

اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور سنو اور اطاعت کرو والتغابن (16).

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"مسلمان شخص پر سماع و اطاعت ہے"

صحیح مسلم حدیث نمبر (1839).

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے:

"میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم پر غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی سماع و اطاعت کرو"

اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ولی الامر اور حکمران قضاء اعلیٰ کمیٹی کے ذریعہ سب مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو شخص بھی چاند دیکھے وہ فوراً محکمہ کو اطلاع کرے۔

اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو"

اور چاند دیکھ کر ہی عید الفطر مناؤ، اور اس کو دیکھ کر ہی عبادت کرو، اور اگر تم پر آلودہ ہو جائے تو پھر تعداد پوری کرو"

اور ان احادیث پر اللہ کی توفیق کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا، پھر جب تک مسلمان چاند دیکھنے میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں، اور دیکھ کر ذمہ دار محکمہ اور رویت ہلال کمیٹی کو اطلاع نہ دیں تو ان احادیث پر عمل کرنا مشکل ہے۔

لہذا جو شخص بھی چاند دیکھے تو وہ اس کے متعلق مخصوص محکمہ کو اس کی اطلاع دے، تو اس طرح شرعی احکام پر عمل ہو سکتا ہے، اور پھر یہ نیکی و تقویٰ میں تعاون بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے "انتہی بتصرف

فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔